



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

March 5, 2026

SECP Proposes Referral Incentive Programs to Increase Investor Participation

ISLAMABAD, March 5: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has proposed the introduction of referral incentive programs to encourage greater investor participation in the capital market. Under the proposed framework, existing investors will be able to refer new clients to securities brokers.

The proposed structured referral programs will be introduced through amendments to the Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016. In this regard, SECP has published a concept paper proposing the relevant regulatory amendments.

Under the proposed framework, brokers will be allowed to engage their existing clients (referrers) to introduce new investors through structured referral programs. These programs will operate under clearly defined terms and conditions specified by SECP to ensure transparency and investor protection.

The incentives offered under such programs will be non-cash, such as commission discounts, trading credits, or similar benefits. These incentives will be capped and time-bound for both the referrer and the new client. Brokers will also be required to clearly define the responsibilities, benefits, and conditions of the referral program, while remaining responsible for resolving any disputes arising under the scheme.

Referral incentive programs are widely used in many international markets, including the United States, United Kingdom, Switzerland, Hong Kong, Malaysia, and Singapore. Such programs typically offer benefits such as trading coupons, commission waivers, and reward points to encourage investor outreach.

SECP's proposed framework seeks to align Pakistan's capital market practices with international standards while maintaining appropriate regulatory oversight and investor protection. The initiative is also expected to support client onboarding and broaden the investor base in the capital market.

The concept paper and proposed amendments are available on the SECP website. Stakeholders are invited to provide feedback on the concept paper within fifteen days of its publication. Comments may be submitted to feedback.prdd.smd@secp.gov.pk.

کیپٹل مارکیٹ میں نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ایس ای سی پی کی ریفرل انوسٹر اسکیم کی تجویز

اسلام آباد، 5 مارچ: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کیپٹل مارکیٹ میں نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ریفرل انسینٹو پروگرام متعارف کرانے کی تجویز پیش کی ہے۔ مجوزہ فریم ورک کے تحت اسٹاک مارکیٹ کے موجودہ سرمایہ کار، نئے کلائنٹس کو سکیورٹیز بروکرز کے پاس متعارف کروا سکیں گے۔

مجوزہ اسٹریکچرڈ ریفرل پروگرام کو سکیورٹیز بروکرز (لائسنسنگ اینڈ آپریشنز) ریگولیشنز میں ترامیم کر کے ریگولیشنز کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس ریفرل اسکیم کا طریق کار اور ضابطے اور متعلقہ ریگولیٹری ترامیم کی وضاحت کے لیے، ایس ای سی پی نے ایک کانسیپٹ پیپر جاری کر دیا ہے، جس پر شراکت داروں کی رائے طلب کی گئی ہے۔ شراکت داروں سے موصول ہونے والی تجاویز کی روشنی میں اس اسکیم کو حتمی شکل دی جائے گی۔

اس فریم ورک کے تحت اسٹاک مارکیٹ بروکرز کے موجودہ کلائنٹس (ریفررز)، نئے سرمایہ کاروں کو متعارف کرا سکیں گے جس کے بدلے میں انہیں بروکر کچھ سہولیات دے سکے گا۔ شفافیت اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس اسٹریکچرڈ ریفرل پروگرام کی واضح شرائط و ضوابط تجویز کی گئیں ہیں۔

جیسے کہ ریفرل پروگرامز کے تحت دی جانے والی مراعات غیر نقد نوعیت کی ہوں گی، جیسے کمیشن میں رعایت، ٹریڈنگ کریڈٹس یا اسی نوعیت کے دیگر فوائد دیے جا سکیں گے۔ یہ مراعات ریفرر اور نئے کلائنٹ دونوں کے لیے محدود اور مخصوص مدت کے لیے دی جا سکیں گی۔ اسکیم آفر کرنے والے بروکرز کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ریفرل پروگرام کے تحت ذمہ داریوں، فوائد اور شرائط اپنے کلائنٹس کو واضح کریں۔

نئے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ سے متعارف کرنے کے لیے ریفرل انسینٹو پروگرامز دنیا کے کئی ممالک جیسے کہ امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، ہانگ کانگ، ملائیشیا اور سنگاپور میں رائج ہیں۔ ایسے پروگرامز میں عام طور پر ٹریڈنگ کوپن، کمیشن میں چھوٹ اور ریوارڈ پوائنٹس جیسے فوائد دیے جاتے ہیں تاکہ سرمایہ کاروں کو مارکیٹ میں شامل ہونے کی ترغیب دی جا سکے۔

اس اسکیم سے کیپٹل مارکیٹ میں نئے کلائنٹس کی آن بورڈنگ میں مدد ملے گی اور مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی بنیاد کو وسعت ملنے کی توقع ہے۔

اسکیم کا کانسیپٹ پیپر اور مجوزہ ترامیم ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے اسٹیک ہولڈرز کانسیپٹ پیپر کی اشاعت کے پندرہ دن کے اندر اپنی آراء اور تجاویز ای میل feedback.prdd.smd@sec.gov.pk پر بھجوا سکتے ہیں۔

ٹكرز:

ايس اى سى پى كا كئيٹل ماركيٹ ميں سرمايه كاروں كى آن بورٹنگ بڑھانے كى تجويز

اسٹاك ماركيٹ بروكرز كے ليے ريفرل پروگرام متعارف كرايا جائے گا

سرمايه كاروں كو نئے انوسٹر متعارف كرانے پر فوائد ديے جائیں گے

ريفرل پروگرام كے تحت غير نقد مراعات دينے كى تجويز

سرمايه كاروں كو كميشن ميں رعايت، ٹريڈنگ كريڈٹس جيے فوائد ديے جا سكيں گے

ايس اى سى پى نے ريفرل پروگرام پر اسٹيڪ هولڈروں سے رائے طلب كر لى